



# MATHEMATICS SSC-II

## Science Group

Time allowed: 2:40 Hours


Total Marks Sections B and C: 60



### SECTION - B (Marks 36)

Q. 2 Solve the following Questions.

(9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2 دیے گئے سوالات حل کریں۔

| (i)             | Reduce the equation $\frac{x-5}{2x} = \frac{x-4}{3}$ to quadratic form and solve.<br>$\frac{x-5}{2x} = \frac{x-4}{3}$ کو درج ذیل مساوات میں تبدیل کر کے حل کریں۔                                                                                                                                                                                                          | 1x4             | OR    | Use synthetic division to find the values of $l$ and $m$ if $(x+1)$ and $(x-2)$ are the factors of $x^3 + lx^2 + mx + 2$ .<br>ترکیبی تقسیم کے استعمال سے $l$ اور $m$ کی قیمتیں معلوم کریں اگر $(x+1)$ اور $(x-2)$ $x^3 + lx^2 + mx + 2$ کے اجڑے ضربیوں ہیں۔                                                                          | 2+2   |       |       |           |    |    |    |    |    |     |    |                                                                                              |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|----|----|----|----|----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (ii)            | If $\alpha, \beta$ are the roots of $x^2 - 5x + 4 = 0$ , then find an equation whose roots are $3\alpha + 2$ and $3\beta + 2$ .<br>اگر $\alpha, \beta$ مساوات $x^2 - 5x + 4 = 0$ کے روٹس ہوں تو ایسی مساوات تشکیل دیں جس کے روٹس $3\alpha + 2$ اور $3\beta + 2$ ہوں۔                                                                                                      | 1x4             | OR    | Solve the radical equation $2\sqrt{3x+4} + 3x - 4 = 0$<br>چذری مساوات $2\sqrt{3x+4} + 3x - 4 = 0$ کو حل کریں۔                                                                                                                                                                                                                        | 1x4   |       |       |           |    |    |    |    |    |     |    |                                                                                              |     |
| (iii)           | If $\frac{x}{p} = \frac{y}{q}$ , then show that $\frac{2xy+3pq}{2xy-3pq} = \frac{2x^2+3p^2}{2x^2-3p^2}$<br>اگر $\frac{x}{p} = \frac{y}{q}$ ہو تو ثابت کریں کہ $\frac{2xy+3pq}{2xy-3pq} = \frac{2x^2+3p^2}{2x^2-3p^2}$                                                                                                                                                     | 3+1             | OR    | If $P = \{1, 3, 5, 7\}$ and $Q = \{2, 4, 6, 8\}$ , then find $P \times Q$ and a relation $R = \{(x, y)   x \in P, y \in Q \wedge x + y > 9\}$<br>اگر $P = \{1, 3, 5, 7\}$ اور $Q = \{2, 4, 6, 8\}$ اور $R = \{(x, y)   x \in P, y \in Q \wedge x + y > 9\}$ ثابت کریں۔                                                               | 1x4   |       |       |           |    |    |    |    |    |     |    |                                                                                              |     |
| (iv)            | Resolve $\frac{x-7}{(x-1)(x+1)(x+2)}$ into partial fractions.<br>کو جزوی کسروں میں تبدیل کریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1x4             | OR    | If $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ , $B = \{2, 3, 4, 5, 8\}$ and $C = \{1, 5, 8, 10\}$ then verify that $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$<br>اگر $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ اور $B = \{2, 3, 4, 5, 8\}$ اور $C = \{1, 5, 8, 10\}$ ثابت کریں کہ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$                                  | 1x4   |       |       |           |    |    |    |    |    |     |    |                                                                                              |     |
| (v)             | If $U = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$ , $A = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ and $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ then verify that $(A \cup B)' = A' \cap B'$<br>اگر $U = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$ اور $A = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ اور $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ ثابت کریں کہ $(A \cup B)' = A' \cap B'$                                                                                         | 1x4             | OR    | If terminal ray of $\theta$ is in first quadrant and $\cos \theta = \frac{2}{3}$ then find the remaining trigonometric ratios of $\theta$ .<br>اگر $\cos \theta = \frac{2}{3}$ اور زاویہ $\theta$ کا اختتامی بازو پہلے ربع میں ہو تو باقی تمام تریگونومیٹریک ریشیو معلوم کریں۔                                                       | 1x4   |       |       |           |    |    |    |    |    |     |    |                                                                                              |     |
| (vi)            | Find Harmonic Mean from the following grouped data.<br><table border="1"><thead><tr><th>Class intervals</th><th>1-5</th><th>6-10</th><th>11-15</th><th>16-20</th><th>21-25</th></tr></thead><tbody><tr><td>Frequency</td><td>27</td><td>16</td><td>26</td><td>72</td><td>69</td></tr></tbody></table><br>درج شدہ گروپڈ ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے ہم آہنگ اوسط معلوم کریں۔ | Class intervals | 1-5   | 6-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | Frequency | 27 | 16 | 26 | 72 | 69 | 1x4 | OR | Resolve $\frac{3x+1}{(x-1)(x^2+1)}$ into partial fractions.<br>کو جزوی کسروں میں تبدیل کریں۔ | 3+1 |
| Class intervals | 1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6-10            | 11-15 | 16-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21-25 |       |       |           |    |    |    |    |    |     |    |                                                                                              |     |
| Frequency       | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16              | 26    | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69    |       |       |           |    |    |    |    |    |     |    |                                                                                              |     |
| (vii)           | Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it.<br>ثابت کریں کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کی تقصیف کرتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                         | 1x4             | OR    | If length of chord $AB$ of a circle is 12cm and its distance from the centre is 8cm, then find length of the diameter $AC$ .<br>اگر دائرہ میں وتر $AB$ کی لمبائی 12 سم ہو اور اس کا مرکز سے فاصلہ 8 سم ہو تو قطر $AC$ کی لمبائی معلوم کریں۔<br> | 1x4   |       |       |           |    |    |    |    |    |     |    |                                                                                              |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>(viii) Two tangents drawn to a circle from a point outside it are equal in length. Prove it.</p> <p>ثابت کریں کہ کسی بیرونی نقطہ سے دائرے کے دو ٹانگہ لہجائی میں برابر ہوتے ہیں۔</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1x4 | OR | <p>Radii of two intersecting circles are 15cm and 10cm. If length of their common chord <math>\overline{CD}</math> is 10cm, find distance <math>\overline{AB}</math> between their centers</p>  <p>دو قاطع دائروں کے رداس بائترتیب 15cm اور 10cm ہیں۔ اگر دائروں کے مشترک وتر <math>\overline{CD}</math> کی لہجائی 10cm ہو تو دائروں کے مراکز کا درمیان فاصلہ <math>\overline{AB}</math> معلوم کریں۔</p> | 1x4 |
| <p>(ix) In triangle <math>ABC</math> <math>m\overline{AB} = 10cm</math>, <math>m\overline{BC} = 8cm</math> and <math>m\overline{AC} = 7cm</math>. Calculate the projection (<math>x</math>) of <math>\overline{AB}</math> on <math>\overline{BC}</math></p>  <p>مثلاً <math>ABC</math> میں اگر <math>m\overline{AB} = 10cm</math>, <math>m\overline{BC} = 8cm</math> اور <math>m\overline{AC} = 7cm</math> ہو تو قاطع <math>\overline{BC}</math> پر <math>\overline{AB}</math> کے ظل (<math>x</math>) کی لہجائی معلوم کریں۔</p> | 1x4 | OR | <p>Construct a circle of radius 4cm. Draw two tangents making an angle of <math>60^\circ</math> with each other.</p> <p>4 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ بنائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ <math>60^\circ</math> کا زاویہ بنانے والے دو مماس کھینچیں۔</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | 1x4 |

### SECTION - C (Marks 24)

Note: Solve the following Questions.

(3 x 8 = 24)

تمام سوالات حل کریں۔

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |      |       |       |       |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|-----|
| <p><b>Q.3</b> Using the Componendo-Dividendo Theorem, prove that <math>\frac{x+4y}{x-4y} + \frac{x+4z}{x-4z} = 2</math> if <math>x = \frac{8yz}{y+z}</math></p> <p>مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ اگر <math>x = \frac{8yz}{y+z}</math> ہو تو <math>\frac{x+4y}{x-4y} + \frac{x+4z}{x-4z} = 2</math> ہوگا</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | 4+4 | OR   | <p>Determine variance and standard deviation from the following frequency distribution.</p> <table border="1" data-bbox="914 1153 1337 1252"> <tr> <td>C</td> <td>3-7</td> <td>8-12</td> <td>13-17</td> <td>18-22</td> <td>23-27</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>دی گئی تعددی تقسیم کے لیے تغیرات اور معیاری انحراف معلوم کریں۔</p> | C     | 3-7   | 8-12 | 13-17 | 18-22 | 23-27 | f | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4+4 |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3-7 | 8-12 | 13-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18-22 | 23-27 |      |       |       |       |   |   |   |   |   |   |     |
| f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 2    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3     | 2     |      |       |       |       |   |   |   |   |   |   |     |
| <p><b>Q.4</b> An airplane pilot at an altitude of 4000m observes two ships approaching in the same direction along a straight path. The angles of depression of the ships as seen from the plane are <math>30^\circ</math> and <math>45^\circ</math>. Determine the distance between two ships.</p> <p>ایک ہوائی جہاز کا پائلٹ 4000 میٹر کی بلندی سے مشاہدہ کرتا ہے کہ دو کشتیاں پانی میں ایک ہی سمت میں ایک ہی سمت سے راستے پر اس کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اگر جہاز دونوں کشتیوں کے زاویہ نزول بائترتیب <math>30^\circ</math> اور <math>45^\circ</math> ہوں تو ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا؟</p> | 2x4 | OR   | <p>If two chords of a circle (or of congruent circles) are equal, then the corresponding arc (minor, major, or semi-circular) are congruent. Prove it.</p> <p>ثابت کریں کہ دو مستطیل دائروں یا ایک ہی دائرے میں اگر دو وتر لہجائی میں برابر ہوں تو دو مستطیل قوسیں قطع کرتے ہیں۔</p>                                                                                                                    | 4+4   |       |      |       |       |       |   |   |   |   |   |   |     |
| <p><b>Q.5</b> The opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary. Prove it.</p> <p>ثابت کریں کہ کسی دائرے کی دائرونی چوکور کے متقابلہ زاویے، سہجہ منبری زاویے ہوتے ہیں۔</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4+4 | OR   | <p>Circumscribe a circle about an equilateral triangle <math>ABC</math> of side 4cm.</p> <p>کسی مساوی الاضلاع مثلث <math>ABC</math> کا محاصرہ دائرہ بنائیں جبکہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 سم ہو۔</p>                                                                                                                                                                                                     | 6+2   |       |      |       |       |       |   |   |   |   |   |   |     |